

481- کعبہ کو دوران طواف بائیں جانب رکھنے کا سبب

سوال

میں جانتا چاہتا ہوں کہ کعبہ شریف کے اردگرد چکر لگانے کا اصل مقصد اور ہدف کیا ہے؟ اور طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو بائیں جانب کیوں رکھا جاتا ہے؟ اور کیا پیدل چلنے کا یہ عمل صرف مکہ میں ہی ہو گا یا کسی بھی دن کہیں بھی ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے اس بارے میں جو بھی معلومات دیں گے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔

پسندیدہ جواب

دوران طواف بیت اللہ کو بائیں جانب رکھنے اور اس کے اردگرد چکر لگانے کا بنیادی سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

ترجمہ: اور رسول کی اطاعت کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ [النور: 56]

اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿مَنْ لَمْ يَنْتَهِنِ عَنِ الطَّوْفِ بِالْبَيْتِ الْمَكِيِّ فَاسْتَبْرَأْ لِنَفْسِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.

ترجمہ: کہہ دو: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ [آل عمران: 31]

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اور عمرے کے ارکان کے متعلق فرمان ہے: (تم مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو) مسلم: (1297)

معین سمت میں طواف کرنے کی وجہ مسلمان کے لیے اتنی ہی کافی ہے کہ یہ اتباع رسول ہے، چنانچہ ہمیں کسی اور سبب اور وجہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم طواف کی سمت کو اجرام فلکیہ یا تاروں وغیرہ کی حرکت سے منسلک کریں، کیونکہ مسلمان کا مزاج ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہر چیز پر ایمان رکھتا ہے، اسے تسلیم بھی کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، چنانچہ اگر اس سے بڑھ کر انسان کو کوئی حکمت یا سبب سمجھ میں آجائے تو الحمد للہ وگرنہ مسلمان ہر وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت سرنگوں ہو کر چلتا ہے، اس عمل کی وجہ سے اسے اتباع و تعمیل پر اجر بھی دیا جاتا ہے۔

نیز واضح رہے کہ یہ طواف کے چکر صرف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہیں، چنانچہ بیت اللہ کے علاوہ کہیں بھی یہ چکر لگانا جائز نہیں ہے۔

واللہ اعلم